

## انگریزی آمیزی کار حجان اور اردو اخبارات

(روزنامہ ”ایکسپریس“ کے خصوصی حوالے سے)

کچھ عرصے پہلے تک ذرائع ابلاغ سے مراد صرف پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات ہی لی جاتی تھی مگر اب اس میں الیکٹرانک میڈیا یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ دیگر سائنسی ایجادات یعنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ شامل ہونے سے اس کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے اور ابلاغ کا عمل بھی تیز تر ہو گیا ہے۔ یہ ذرائع نہ صرف عوام کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں بلکہ عوام کو تفریح بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ علمی، ادبی، مذہبی، سماجی، فنی غرض ہر شعبہ ہائے زندگی سے متعلق معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم اس صورت حال کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اس ذرائع ابلاغ کے عمل میں انگریزی الفاظ، مرکبات، فقرات، محاورات وغیرہ کا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے بیش تر انگریزی الفاظ و مرکبات کے اردو مترادفات ہونے کے باوجود انگریزی متبادلات کے استعمال کار حجان ایک سوالیہ نشان ہے۔ چنانچہ زیر نظر مقالہ اسی تناظر میں اردو اخبارات میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ، مرکبات، فقرات کو اپنا موضوع بناتا ہے جن کے اردو مترادفات روزمرہ بول چال کا جزو ہونے کے باوجود استعمال نہیں کیے جا رہے۔

دنیا کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زبان بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ دوسری زبانوں کے اثرات یا الفاظ سے یک سرخالی ہے۔ جس طرح ایک قوم یا ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف ہم سایہ ممالک یا قوموں بلکہ دور دراز کے ملکوں اور قوموں سے بھی زیادہ سے زیادہ تعلقات و روابط قائم کرے۔ بالکل اسی طرح کسی زندہ رہنے والی زبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوسری زبانوں سے اس کا ربط و ضبط کسی نہ کسی صورت بڑھتا رہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی زبان بین الاقوامی مسائل میں حصہ لے سکتی ہے اور نہ کوئی زبان بین الملکتی ربط و اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے زبانوں کا ایک دوسرے سے استفادہ ناگزیر ہے۔ اس تناظر میں اردو زبان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو نے اپنے تمام رنگ برصغیر کی مقامی زبانوں ہندکو اور پالی (شمالی پنجاب)، ہندی/ہندوی (وسطی پنجاب) دکنی (جنوبی ہند)، اپ بھرنش (شمالی ہند) اور کھڑی بولی (اطراف دہلی) وغیرہ سے حاصل کیے ہیں۔ جسے قدیم زمانے میں یونانی بعد ازاں فارسی، عربی پھر یورپی زبانوں خاص طور پر انگریزی کے ساتھ اشتراک عمل سے اپنا رنگ و روپ ملا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے الفاظ میں کہ:

”اردو ایک بین الاقوامی مزاج کی زبان ہے اور اس میں صرف عربی، فارسی یا مقامی بولیوں کے الفاظ ہی نہیں بلکہ

دنیا کی ہر قوم اور ہر زبان کے الفاظ کم و بیش شامل ہیں۔“

اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہر زبان میں مقامی/ دیسی الفاظ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی یا بدیسی الفاظ کا دافر ذخیرہ ملتا ہے۔ غیر ملکی الفاظ کے لیے مستعار اور ذخیل کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری زبان سے لیے جانے والے لفظ میں صوتی، فونیمی، صرفی، نحوی یا معنوی سطح پر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اور لفظ کو بغیر کسی تبدیلی کے ہو، ہوا استعمال کیا جائے تو مستعار لفظ کہلاتا ہے۔ تاہم صوتی، فونیمی، صرفی یا معنوی سطح پر کسی بھی قسم کا تغیر اسے ذخیل الفاظ کے زمرے میں لے آتا ہے۔ زیر نظر مقالہ اردو زبان میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ سے متعلق ہے۔ علی گڑھ تحریک کی ایک عطایہ بھی تھی کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو انگریزی خیالات کے ساتھ ساتھ انگریزی الفاظ لینے پر بھی مائل کیا۔ سرسید اور ان کے رفقاء خصوصاً حالی اور شبلی کی تحریروں میں جا بجا اسے انگریزی الفاظ ملتے ہیں جن کے اردو مترادفات اردو میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ابوالیث صدیقی اپنے مضمون ”جنگ آزادی کا اثر زبان پر“ کے ۲۷ میں رقم طراز ہیں کہ انگریزی کے جو الفاظ اردو میں آئے وہ تین طرح کے ہیں۔ پہلے وہ الفاظ جو دفتری یا عدالتی زبان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا استعمال عوام اور خواص دونوں کرتے تھے۔ بظاہر یہ ایسے الفاظ تھے جو آہستہ آہستہ اردو میں گھل مل کر اردو بن گئے۔ دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو ہماری عام تہذیبی اور سماجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں اکثر ان چیزوں کے نام ہیں جو انگریزی کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں۔ ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو خاص و عام کی زبان پر رواں ہو گئے۔ الفاظ کا تیسرا اور نہایت اہم ذخیرہ ادبی، علمی اور فنی الفاظ کا ہے لیکن یہ تمام الفاظ صرف اجنبی لغات کی حیثیت سے اردو میں شامل نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ نئے تصورات، نظریات اور نئی تشریحات لے کر آئے۔ لیکن اس تمام عمل کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ انگریزی چون کہ حکمران طبقے کی زبان تھی اس لیے انگریزی الفاظ کا استعمال مہذب ہونے کی نشانی سمجھا جانے لگا اور آج صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں انگریزی کو اشراف کی تعلیم، امارت، شہری اور اعلیٰ طبقے کی تربیت اور بلند مرتبے کی ایک علامت خیال کیا جانے لگا ہے۔ بہت سے افراد مغربی طور اطوار کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے انگریزی زبان بولتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی خطے میں جائیں یا کسی محفل میں شریک ہوں ہر جگہ ایک ہی نوعیت کے مسئلے پر بحث نظر آتی ہے کہ اردو روزمرہ میں انگریزی کے بڑھتے استعمال کا رجحان آخر کس انجام پر منتج ہوگا خاص طور پر نشر و اشاعت کے ذرائع یعنی ریڈیو، ٹی۔وی اور اخبارات میں انگریزی الفاظ کے کثرت سے استعمال نے کئی سوال اٹھائے ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

انگریزی الفاظ کے استعمال کے حوالے سے اردو روزنامہ ”ایکسپریس“ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اخبار ۳ ستمبر ۱۹۹۸ء سے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودھا، راولپنڈی، رحیم یار خان اور سکھر سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ روزنامے کا نام ہی انگریزی میں ہے یعنی روزنامہ ”ایکسپریس“ اسلام آباد۔ ۳۱ زیر نظر اخبار چوبیس صفحات اور ایک ہفتہ وار رسالے پر مشتمل ہے، رسالے کو طوالت کے ڈر سے شامل نہیں کیا گیا۔ نیز اخبار میں سے فقط سرخیوں اور اشتہارات کا مطالعہ کیا گیا ہے اور خبروں کی تفصیل سے صرف نظر کیا گیا ہے تاہم موضوع کی مطابقت سے محض سرخیاں اور اشتہارات بھی تحقیقی نتائج اخذ کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کرتے ہیں۔ اخبار

میں دس مرکزی عنوانات کے تحت خبریں تقسیم کی گئی ہیں۔ ان دس عنوانات میں سے فقط ایک عنوان کا اردو متبادل دیا گیا ہے وگرنہ باقی تو عنوانات صرف انگریزی زبان میں ہی ہیں جیسے سٹی / City / نیشنل / National / سپورٹس / Sports / میٹرو پولیٹن / Metropolitan / شو بیز / Showbiz / گرو نو اچ / Regional / ایڈیٹوریل / کلاسیفائیڈ / بزنس / Business ، سوشل میڈیا۔ یہ اخبار میں جن عنوانات کو رومن اور نستعلیق رسم الخط میں لکھا گیا ہے ان کی یہاں تحریر میں اسی طریقے کو مدنظر رکھا گیا ہے اور جو عنوانات صرف نستعلیق میں ہیں انھیں یہاں بھی رومن میں نہیں لکھا گیا۔ اب سرخیوں اور اشتہارات سے مثالیں ملاحظہ کریں۔ ان مثالوں میں انگریزی زبان کے انھی الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جن کے اردو مترادفات نہ صرف زبان میں موجود ہیں بلکہ عام استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان انگریزی الفاظ کا استعمال ایک سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ نیز انگریزی لفظ کو بطور مثال ایک بار ہی لکھا گیا ہے اور اگر وہ لفظ دوبارہ کسی خبر کا حصہ بنا تو اسے شامل نہیں کیا گیا:

- ☆ پانامہ پریس پریم کورٹ کے فیصلے نے نواز شریف کی اخلاقی حیثیت ختم کر کے اصل کرپٹ چہرہ دکھا دیا۔
- ☆ کرپشن کے خلاف ملک گیر تحریک چلاؤں گا۔
- ☆ اللہ مجھے زرداری جیسا عقل مند سیاست دان نہ بنائے، چیئر مین تحریک انصاف۔
- ☆ قائم مقام چیف ایگزیکٹو کا چارج بھی واپس۔
- ☆ ہائیکورٹ بار کا ۷ روزہ اسٹیٹمنٹ۔
- ☆ وکلاء کنونشن اور آل پارٹیز کانفرنس بلا کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔
- ☆ لاہور کے ریلوے اسٹڈیم میں سالانہ گیمز کی تقریب ہو رہی تھی۔
- ☆ گالم گلوچ بریگیڈ ذاتیات پر اتر آیا۔
- ☆ جے آئی ٹی کے لیے نام فائل نہ ہو سکے۔
- ☆ حملہ اپنے لیڈروں کی ہلاکت کا جواب تھا۔
- ☆ مسٹر ہنڈرڈ پرنٹ ہمیں درس دے رہے ہیں۔
- ☆ ...عابد شیر علی، ربیلی نکالی۔
- ☆ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔
- ☆ مردم شماری، جڑواں شہروں کے لیے سیکورٹی پلان تشکیل۔
- ☆ افسر کا انگوٹھا فریکچر، اہل کار کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔
- ☆ گیلانی کے سابق میڈیا ایڈوائزر خرم رسول بری۔

- ☆ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا نجی اسکول کی تقریب میں پوزیشن ہولڈر طالب علم کے ہمراہ فوٹو۔
- ☆ اسلام آباد، ماتحت عدالتوں کے ججز کی ترقی کا نوٹیفکیشن جاری۔
- ☆ خاتون اول فری میڈیکل کیمپ میں ۲۰۰۵ء کے زلزلے میں معذور ہونے والی خواتین سے گفتگو کر رہی ہیں۔
- ☆ ۵ ریزرز کا انومی پیک۔
- ☆ "KAMAL" لکھ کر ۹۸۹۸ پر SMS کریں۔
- ☆ EFU Life کے پریکٹیشن، سیونگنز، انویسٹمنٹ، ریٹائرمنٹ، بچوں کی ایجوکیشن اور میرج پلانز کے ذریعے ۱۰۰۰ اپنی منزل کا حصول یقینی بنائیں۔
- ☆ -Life Zaroori Hai
- ☆ آج رات ۱۰:۰۵ PM
- ☆ ایران جوہری ڈیل پر جلد واضح موقف اختیار کریں گے: ٹرمپ۔
- ☆ ...گیٹکسٹر زکا گریڈ حملہ، ۱۶ زخمی۔
- ☆ بڈگام کے گاؤں حیات پورہ میں فورسز پر حملہ کیا گیا۔
- ☆ جے آئی ٹی کے بجائے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا: اعتراف۔
- ☆ ...دہشتگردوں کے تین کیمپ مسار۔
- ☆ ۹ مشکوک ٹرانزیکشن کے خلاف تحقیقات کا انکشاف۔
- ☆ مشکوک آمدن: کم ڈاکومنٹیشن والے شعبوں میں انویسٹ کی جا رہی ہے: رپورٹ۔
- ☆ غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری۔
- ☆ کراچی کو پانی فراہمی کے لیے سندھ حکومت کی وفاقی حکومت کو سہری۔
- ☆ کنسلٹنٹ کے لیے خصوصی پیکیج۔
- ☆ ابتدائی ٹیسٹ مکمل تیاری بمعہ آؤٹ ڈور ٹاسک
- ☆ سٹوڈنٹس کے لیے خصوصی آفر۔
- ☆ آری/نیوی/ایئر فورس ...
- ☆ ۱۰۰۰۰ سے زائد MCQ's پر کمپیوٹر بیسڈ آن لائن پریکٹس ٹیسٹ کریں۔
- ☆ آن لائن ٹیسٹ دے کر اپنی پرفارمنس خود چیک کریں۔

- ☆ ۳ عدد اپورٹڈ بوائز... ☆
- ☆ معائنہ اور شرائط و ضوابط... کا وزٹ اس اشتہار کے پندرہ دن کے اندر دفتری اوقات میں کیا جاسکتا ہے۔ ☆
- ☆ پیش کش کے ہم راہ بولی... بشکل کیش یا بینک ڈرافٹ بحق حلیب نوڈز منسلک کیا جائے۔ ☆
- ☆ کام یاب ٹینڈر ہندہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے نافذ کردہ سیلز ٹیکس ایکٹ ۱۹۹۰ء کے مطابق... وصول کیا جائے گا۔ ☆
- ☆ اعلیٰ تعلیم یافتہ آرتھوک پیڈک ماہر، جو خصوصی جوائنٹ ریپلسمنٹ... میں مہارت رکھتے ہیں۔ ☆
- ☆ وہ اپنے فری چیک اپ کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ☆
- ☆ صرف کال کریں۔ SMS کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ☆
- ☆ IELTS میں 5.0 Bands لینے والے سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ☆
- ☆ فورٹس ہسپتال انڈیا سے لیورڈانسپلائٹ کی سپیشلسٹ ٹیم ۱۳۰ اپریل تا ۱۰ مئی ۲۰۱۷ء کو راول پنڈی آرہی ہے۔ ☆
- ☆ فیصل ٹاؤن مین گیٹ کی آئیڈل لوکیشن پرنسٹریکشن کا باقاعدہ آغاز۔ ☆
- ☆ پارکس، بھیلوں کے میدان، ہاسپٹل، سیکورٹی، بجلی، پانی، گیس۔ ☆
- ☆ ۱۱۳۰۰ اسکوار فٹ... لے۔ ☆
- ☆ قرارداد ۱۱۵ اپریل کو تمام لگی ایم پی ایز جمع کرائیں گے۔ ☆
- ☆ اپوزیشن آدھا فیصلہ تسلیم کر رہی ہے۔ ☆
- ☆ ہولی فیمیلی ہسپتال کے شعبہ گائنی میں ناقص صفائی۔ ☆
- ☆ سالانہ میوزک میلہ آج پی این سی اے میں ہوگا۔ ☆
- ☆ بھٹوکیس کا فیصلہ بھی ایسا ہی تھا۔ ☆
- ☆ ہمارے ہاں نقل، بوٹی مافیا کا کوئی تصور نہیں۔ ☆
- ☆ حالات کنٹرول میں ہیں، مکائنٹ۔ ☆
- ☆ چائلڈ لیبر ختم۔ ☆
- ☆ قوم اگلے الیکشن میں بددیانت، جھوٹوں کو پوری طرح بے نقاب کرے گی۔ ☆
- ☆ عمران کے وزیر اعظم بننے کا راستہ کلیئر نہیں: ریحام خان ☆
- ☆ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ ☆
- ☆ ارتھ ڈے کے موقع پر ایک خاتون ہیننگ کے مقابلے میں شریک ہے۔ ☆

- ☆ شعبہ ایمر جنسی کو جدید بنا رہے ہیں: میسر انصر عزیز
- ☆ صوفی فین: ٹھیکے دار اور ڈیلرز کے لیے مزید رعایت
- ☆ تمام ڈویلپمنٹ اخراجات سمیت صرف اور صرف ۶ لاکھ ۵۰ ہزار روپے کا ۵ مرلہ پلاٹ۔
- ☆ کشادہ کچی سڑکیں، بجلی اور انڈر گراؤنڈ سیوریج
- ☆ ویزہ خرچ، ایئر ٹکٹ اور زیارات بھی شامل ہیں۔
- ☆ چار عدد تصاویر (نیلا بیک گراؤنڈ) ۸
- ☆ مونا کو: موٹی کار لو... اسٹینس پلیسر... لوکاس پاؤلی کے خلاف گیندریٹن کر رہے ہیں۔
- ☆ ماریا شرابوا کے والد کا رڈ پر تنقید کرنے والے پلیسرز حاسد ہیں، ایجنٹ
- ☆ ایشین اسکواش: فرحان محبوب شرکت نہیں کر سکیں گے۔
- ☆ پیسٹینوں کو شارٹ پیج اور باہر جاتی ہوئی گیندوں کو کھیلنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔
- ☆ رگی کو چنگ کورس: سری لنکن آفیشل کی لاہور آمد۔
- ☆ انٹر کالجیٹ ٹینس چیمپئن شپ کا آج آغاز ہوگا۔ ۹
- ☆ محمد عامر نے بہتر کارکردگی کا کریڈٹ بولنگ کوچ کو دے دیا۔
- ☆ معاوضوں پر آسٹریلوی بورڈ کی ٹال مٹول، پلیسرز کی فرسٹریشن میں اضافہ۔
- ☆ شارٹ سنگلز: آئی پی ایل: ۷۷ سال اسپنر سندر کا ڈیبیو۔
- ☆ سا نکلیسٹ کی روڈ حادثے میں ہلاکت۔
- ☆ بگلہ دیسی سینٹرل کنٹریکٹ لسٹ تیار۔
- ☆ کمزور پلاننگ کے سبب انڈین بیننگ کو سنبھلنے کا موقع ملا: عبدالقادر
- ☆ آئی سی سی کو جھکانے کے لیے بھارتی ہوم ورک مکمل۔
- ☆ دباؤ ڈالنے کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا بائیکاٹ کا آپشن کھلا۔ ٹیم کے اعلان میں تاخیر متوقع۔
- ☆ آئی پی ایل: دھونی کا بیٹ بھی حرکت میں آ گیا۔
- ☆ بدتمیزی پر ایکریڈیشن منسوخ کر دیا گیا۔ آئی ٹی ایف نے انکوائری شروع کر دی۔
- ☆ مایوس کن سیریز کے بعد سری لنکن کو چنگ شاف اور سپورٹ اسٹاف جھگڑنے لگا۔
- ☆ ... لوگوں نے اسکوڈ میں رکھنا چاہا تو انکار نہیں کروں گا: سینئر بیٹسمین

- ☆ بلوچستان کے خلاف افتخار احمد کی سنجیری
- ☆ تھیمیز ٹرائی کے اسکوڈ میں عمر اکمل کو بلٹوز ”پاور ہٹز“ شامل کرنے کی تیاریاں۔
- ☆ سیکورٹی گارڈ نے ٹیلیس کو گھسیٹ کر کورٹ سے باہر نکالا۔
- ☆ نسیل جارح مزاج اوپن بن گئے۔
- ☆ سوز و واثر پارک جانے کا موسم آ گیا۔
- ☆ انگلش اسٹار کا کھیلنے سے انکار: میچ ۱۰ منٹ معطل رہنے کے بعد مکمل ہوا۔
- ☆ پارک اوقات 10 AM to 6 PM!
- ☆ بحریہ انگلیو کی سب سے شان دار لوکیشن، بہترین لائف اسٹائل کی ضمانت۔
- ☆ ہر سائز کی شان دار دکانیں، ماڈرن دفاتر، لگژری اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز۔
- ☆ چکن اور باتھ روم میں برانڈ ڈیکور، سروٹ کوارٹرز۔
- ☆ علامہ اقبال ایئر پورٹ سے ۱۵ منٹ اور کلمہ چوک سے ۱۳ منٹ سگنل فری ڈرائیو۔
- ☆ ۱۰ اکلومیٹر طویل لینئر پارک... ۳۰۰ فٹ کی مین بلیوارڈ۔
- ☆ ڈیپلو میٹک انگلیو... ۳۹۰ کنال تھیم پارک
- ☆ ایک ہزار کنال کا میگا پارک۔
- ☆ اتوار کو آفس کھلا رہے گا۔!
- ☆ راول پنڈی، ٹرین کی زد میں آ کر نامعلوم شخص جاں بحق۔
- ☆ نائر پھٹنے سے ہائی ایس وین بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔
- ☆ راول پنڈی، سیکورٹی اداروں کا آپریشن، ۶ مشتبہ افراد گرفتار۔
- ☆ ۱۶۰ گھروں کی چیکنگ، اسلحہ اور شراب برآمد۔
- ☆ مکینوں کا کنٹونمنٹ دفتر کے گیٹ پر دھرنا۔
- ☆ واپڈ میں کل ملک گیر سطح پر سیفٹی ڈے منایا جائے گا۔
- ☆... پنجاب کا لجز نے... سبجیکٹ سٹڈنٹس کی موجودگی میں... سہولت کو یقینی بنایا ہے۔
- ☆ ۵ مرلہ ڈبل سٹوری گھر۔
- ☆ مانگر و سوفٹ سے تربیت یافتہ سرٹیفائیڈ ٹیچرز

- ☆ ملکی وغیر ملکی پروفیشنل اساتذہ کے ویڈیو لیکچرز
- ☆ وسیع و عریض گراؤنڈ، ۱۱۴ اقسام کی ان ڈورا اور آؤٹ ڈورا سپورٹس۔
- ☆ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے مشکل Concepts کو آسان بنایا جاتا ہے۔ ۱۲
- ☆ مسجد، مندر، چرچ جانا پسند ہے، اداکارہ۔
- ☆ خرم حسین، ماریا اونیزہ مشترکہ ویڈیو ریلیز کریں گے۔
- ☆ کراچی: فیشن ویک کے دوسرے روز ماڈل ریپ پرواک کرتے ہوئے۔
- ☆ سنجے دت کی فلم ”بھومی“ کی ریلیز کا شیڈول تبدیل۔
- ☆ لکھنؤ میں شوٹنگ کے دوران اذان کی آواز آتی تھی تو اس میں مجھ ہو جاتی تھی۔
- ☆ انجیلینا جولی کو برطانوی برنس مین پسند آ گیا، جلد شادی کا فیصلہ
- ☆ کامیڈین سنیل گووردو کا اکٹھے کمارے کے ساتھ ”مہا گرو“ شو کرنے سے انکار۔
- ☆ ایلیا سٹراہری بریٹ کینسر روکنے سے مفید ہے۔
- ☆ لاس اینجلس میں آئس کریم میوزیم کھل گیا۔ ۱۳
- ☆ چکوال: پولیس کے سرچ آپریشن، ۷ ملزمان گرفتار۔
- ☆ چکوال: ری سکپو ۱۱۲۲ کی ایمر جنسی سے نمٹنے کی مشق۔
- ☆ افسران نے ری سکپو رکا سوئمنگ، بوٹ چلانے کی مہارتوں کا ٹیسٹ لیا۔
- ☆ یونین کونسل مواڑہ کو ماڈل بناؤں گا۔ چیئر مین عبدالرؤف راجہ۔
- ☆ ضلعی افسر سپیشل ایجوکیشن کی نااہلی، کوٹلی ستیا سنٹر بند ہونے کا خدشہ۔
- ☆ مسلح افواج سے ریٹائرڈ، کم از کم میجر رینک کے آفیسرز۔ ۱۴
- ☆ عدلیہ کا فیصلہ... چیلنج، ویک اپ کال۔
- ☆ لائف لائن... آؤٹ یا ناٹ آؤٹ۔ ۱۵
- ☆ فلیٹس اور شاہپس آسان اقساط پر۔
- ☆ گلستان کالونی گھر فارسیل / ڈبل سٹوری ہاؤس فارسیل / ڈھوک پراچہ ہاؤس فار ریٹنٹ۔
- ☆ موٹروے ہاؤسنگ اسکیم ٹھیلیاں انٹر چینج میں جنرل پبلک ڈائریکٹ الاٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں۔
- ☆ پلاٹ ۱۰ امرلہ، کنال ۲، کنال علاوہ کمرشل سیل پر چیز کے لیے اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں۔



- ☆ وفاقی ملازمین جن کو Consent لیٹر جاری ہو چکے ہیں، فروخت کے لیے رابطہ کریں۔
- ☆ اگر آپ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم نوکری کی تلاش میں ہیں اور آپ کے پاس نوکری کا تجربہ بھی نہیں تو آئیے ہمارے ساتھ۔
- ☆ ہمیں اردو بیسٹ کال سینٹر ایونگ شفٹ میں میل فی میل CSR's کی ضرورت ہے۔
- ☆ احسن ڈرائیونگ اسکول: اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔
- ☆ فوجی بھائیوں کے پلاس کی Best آفر۔
- ☆ ٹیوٹا موٹر ۲۰۱۳، فرلیش امپورٹ/بہترین سکول برائے پارٹنرشپ۔
- ☆ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن/برنس اینڈ پروفیشن۔
- ☆ گلبرگ اسلام آباد میں ریڈیٹل اور فارم ہاؤسز کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں۔ ۱۶
- ☆ ہیلتھ اینڈ فٹنس/کمپیوٹریل/میرج ہیپ/۱۰ سالہ گارنٹی والے سستے زیورات۔
- ☆ ۵ دن میں چہرے کے ڈنٹ کمزور جسم سے نجات/ضرورت برائے ٹیچر۔
- ☆ اسٹوڈنٹس کے لیے سنہری موقع/ڈرائیورز، ٹک، میڈ دستیاب/بینک لون آفر۔
- ☆ ضرورت برائے نیو آفس/ارجنٹ سٹاف میل، فی میل/لیڈرز ٹیلر درکار۔ ۱۷
- ☆ بیجک پاور سے شان دار ازدواجی زندگی/پک اینڈ ڈراپ۔
- ☆ ٹیٹ/انٹروپوڈیلکیشن کی موجودگی میں ۱۷-۲۰-۲۳ سے شروع ہوں گے۔
- ☆ کمپی ٹینسی کا کلاس I سرٹیفیکٹ/تقرری ابتدائی طور پر ۲ سالہ مدت کے لیے کنٹریکٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ ۱۸
- ☆ پیکیجس مورے ۸ مئی ۲۰۱۷ء کو... ریجنل آفس، ویسٹرج-I میں وصول کی جائیں گی۔ ۱۹
- ☆ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے قیام کا اصولی فیصلہ/انقلابی سال بہ سال ۲۳ فیصد بلند۔
- ☆ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر مارکیٹ کے لیے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔
- ☆ ہر قسم کی اراضی کی ویلیو، لین دین و دیگر ڈیٹا ماہانہ جاری کیا جائے گا۔
- ☆ بڑے پیمانے پر خریداری کے جعلی آرڈر جاری اور مصنوعی مارکیٹ قائم کرنے میں ملوث۔
- ☆ چیئرمین ایس ای سی پی کافرڈ روکنے کے لیے اقدامات کا حکم۔
- ☆ میڈیا اور تعلیمی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔
- ☆ ای مانیٹرنگ نظام، عالمی کمپنی ہائر کرنے کے لیے سٹینڈر تیار۔
- ☆ کمپنی ۱۵، ہم شعبوں کی پیداوار و سپلائی کی ای مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کا نظام تیار کرے گی۔

- ☆ رولز میں ترامیم کی منظور دے دی گئی۔
- ☆ فلور ملز کے بھی ۱۵ ارب روپے ری بیٹ میں پھنس گئے۔
- ☆ اوپر دی گئی تاریخوں میں دفتری اوقات کے دوران ٹینڈر ڈفارم ایشو کیے جائیں گے۔ ۲۰
- ☆ اب انشا گرام پرتصا ویر شیئر کرنے کے لیے انٹرنیٹ ضروری نہیں۔
- ☆ فیس بک کلچر جنھیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں۔
- ☆ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا ایک منفی پہلو۔ ۲۱
- ☆ نیا ٹیلنٹ روشن مستقبل کی نوید بنانے لگا۔ ۲۲

اب خط کشیدہ انگریزی الفاظ کے اردو مترادفات ملاحظہ کریں: جن کے سرسری مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ ان کے اردو مترادفات روزمرہ بول چال کا حصہ ہونے کے باوجود اخبار میں درج نہیں کیے گئے۔

English	رومن	اردو مترادفات ۲۳	English	رومن	اردو مترادفات ۲۳
Ultimatum	الٹی میٹم	آخری انتہا	Supreme Court	سپریم کورٹ	عدالت عظمیٰ
All Parties	آل پارٹیز	کُل جماعتی	Corrupt	کرپٹ	بدعنوان
Confrence	کانفرنس	اجلاس	Corruption	کرپشن	بدعنوانی
Convention	کنونشن	اجلاس۔ جلسہ	Chairman	چیئرمین	سربراہ۔ صدر۔ نشین
Games	گیمز	کھیل	Charge	چارج	ذمہ داری۔ فریضہ۔ عہدہ
Brigade	بریگیڈ	دستہ۔ تنظیم	High Court	ہائی کورٹ	عدالت عالیہ
Leader	لیڈر	رہنما۔ قائد	Case	کیس	مقدمہ
Report	رپورٹ	حقائق کا بیان	Leader	فورسز	افواج
Marriage	میرج	شادی	Final	فائنل	آخری۔ حتمی
Plans	پلانز	منصوبے	Land	لینڈ	زمین
Life	لائف	زندگی۔ حیات	Mafia/Maffia	مافیا	تنظیم۔ گروہ۔ قانون شکن / (بجروں کی)
Deal	ڈیل	سودا۔ معاہدہ	Chief	چیف	سربراہ۔ سردار

Judicial	جیوڈیشل	عدالتی/ججوں کا	Trial	ٹرائل	مقدمہ۔ سماعت
Gangsters	گینگسٹرز	جرائم پیشہ۔ بد معاش	Military Court	ملٹری کورٹ	فوجی عدالت
Grenade	گرینیڈ	دستی بم	Security	سیکورٹی	تحفظ۔ حفاظت
Camp	کیمپ	ٹھکانا۔ پڑاؤ	Plan	پلان	منصوبہ۔ تجویز
Transaction	ٹرانزیکشن	لین دین۔ سودا۔ کارروائی	Fracture	فریکچر	ہڈی ٹوٹنا
Documentation	ڈاکومنٹیشن	دستاویزی ثبوت	Media	میڈیا	ذرائع ابلاغ
Invest	انویسٹ کرنا	سرمایہ/روپیہ لگانا	Advisor	ایڈوائزر	مشیر
Load	لوڈ شیڈنگ	بجلی کی بندش	Position.Holder	پوزیشن ہولڈر	اعزاز یافتہ۔ درجہ پانے والا/دالی
Summary	سمری	خلاصہ۔ تلخیص	Photo	فوٹو	تصویر
Consultant	کنسلٹنٹ	مشیر	Notification	نوٹیفیکیشن	تحریری اطلاع/اعلان
Package	پیکج	پلندہ	Free Medical Camp	فری میڈیکل کیمپ	مفت طبی مرکز
Test	ٹیسٹ	امتحان۔ آزمائش	Razors	ریزرز	استرے
Out door	آؤٹ ڈور	بیرونی	Economy.Pack	اکانومی پیک	بچت پلندہ
Task	ٹاسک	ذمہ داری۔ کام۔ مہم	SMS	ایس ایم ایس	پیغام
Students	سٹوڈنٹس	طالب علم۔ طلبہ	Protection	پروٹیکشن	تحفظ۔ حفاظت۔ بچاؤ
Offer	آفر	پیشکش	Savings	سیونگز	بچت۔ بچتیں
MCQ's	ایم سی کیوز	کثیر الانتخابی سوالات	Investment	انویسمنٹ	سرمایہ کاری۔ روپیہ لگانا
Classes	کلاسز	جماعتیں	Education	ایجوکیشن	تعلیم
Hospitals	ہاسپٹلز	ہسپتال	Based	بیسڈ	بنیاد (پر)
Square	اسکوائر	مربع	Practice	پریکٹس	مشق۔ مہارت
M.P.A's	ایم پی ایز	ارکان صوبائی اسمبلی	Performance	پرفارمنس	کارکردگی

Opposition	اپوزیشن	حزب اختلاف	Check	چیک کرنا	معائنہ کرنا۔ دیکھنا
Gyne	گائنی	امراض نسواں	Imported	اچورٹڈ	درآمد شدہ
Msic	میوزک	موسیقی	Visit	وزٹ	معائنہ۔ دورہ
Case	کیس	مقدمہ	Cash	کیش	نقد۔ نقدی
Orthopaedic	آرتھوپڈک	جسمانی نقائص کے علاج سے متعلق	Govt. of Pak.	گورنمنٹ آف پاکستان	حکومت پاکستان
Control	کنٹرول	قابو۔ اختیار	Sales Tax	سیلز ٹیکس	محصول۔ فروخت/بکری محصول
Commandent	کمانڈنٹ	سالار۔ کیدان	Act	ایکٹ	آئین۔ دفعہ۔ قانون
Election	ایکشن	انتخاب	Joint Replacement	جوائنٹ ریپلیسمنٹ	جوڑوں کی تبدیلی
Clear	کلیئر	شفاف۔ واضح	Free Checkup	فری چیک اپ	مفت معائنہ
Notice	نوٹس	توجہ۔ دھیان	Apply	اپلائی کرنا	امیدوار یا طالب ہونا/ درخواست دینا
Earth Day	ارتھ ڈے	یوم ارض	India	انڈیا	بھارت
Painting	پینٹنگ	نقاشی۔ مصوری	Liver. Transplant	لیور ٹرانسپلانٹ	جگر کی منتقلی
Emergency	ایمرجنسی	حادثات۔ ہنگامی حالت	Specialist	سپیشلسٹ	ماہر
Mayor	میئر	صدر بلدیہ	Main Gate	مین گیٹ	مرکزی/صدر دروازہ
Fan	فین	پنکھا	Ideal	آئیڈیل	مثالی
Dealers	ڈیلرز	تاجر۔ بیوپاری۔ تھوک فروش	Location	لوکیشن	جگہ۔ مقام
Development	ڈویلپمنٹ	ترقی/ترقیاتی۔ تکمیل	Construction	کنسٹرکشن	تعمیر
Under.ground	انڈر گراؤنڈ	زیر زمین	Hospital	ہاسپٹل	ہسپتال
Sewerage	سیوریج	نکاسی (گنداپانی)	Bathrooms	باتھ رومز	غسل خانے

Central	سنٹرل	مرکزی	Air ticket	ایئر ٹکٹ	ہوائی ٹکٹ
Contract	کنٹریکٹ	معاہدہ	Back Ground	بیک گراؤنڈ	پس منظر
List	لسٹ	فہرست	Spanish	اسپینش	اطالوی
Planing	پلاننگ	منصوبہ بندی	Player	پلیئر	کھلاڑی
Indian	انڈین	بھارتی	Fedrations	فیڈریشنز	تنظیمیں
Bating	بیٹنگ	بلے بازی	Return	ریٹرن کرنا	واپس کرنا
Boycott	بایکاٹ	قطع تعلقی۔ مقاطعہ	Asian	ایشین	ایشیائی
Option	آپشن	انتخاب۔ اختیار۔ راہ عمل	Batsman	بیٹسمین	بلے باز
Bat	بیٹ	بلا	Short	شارٹ	مختصر/چھوٹا
Accredition	ایگریڈیشن	تقرر۔ نمائندگی	Coaching	کوچنگ	تربیت/تربیتی
Inquiry	انکوائری	پوچھ گچھ۔ تحقیقات	Official	آفیشل	اہلکار
English	انگلس	انگریزی	Injury	انجری	چوٹ
Star	سٹار	معروف کھلاڑی/سٹار	Inter-Collegiate	انٹرا کالجیٹ	بین الکیلیاتی
Life Style	لائف اسٹائل	طرز زندگی	Credit	کریڈٹ	عزت۔ سہرا۔ فخر
Size	سائز	ناپ	Coach	کوچ	تربیت کار۔ استاد
Modern	ماڈرن	جدید	Players	پلیئرز	کھلاڑی
Luxury	لگھوری	پر تعیش/تکلف	Frustration	فرسٹریشن	مایوسی۔ یاسیت
Kitchen	کچن	باورچی خانہ	Singals	سنگلز	واحد۔ ایک ایک
Bathroom	باتھ روم	غسل خانہ	Debut	ڈیبیوٹ	اولین تعارف۔ ظہور۔ آغاز کار
Branded	برانڈڈ	تجارتی نشان/چھاپ والا	Cyclist	سائیکلیسٹ	سائیکل سوار
Fixture	فیکسچر	تنصیبات	Road	روڈ	سڑک
Servant	سرونٹ	ملازم۔ نوکر	Park	پارک	تفریح گاہ۔ سیرگاہ۔ باغ
Opener	اوپنر	آغاز/ابتدا کرنے والا	Court	کورٹ	میدان

Safty Day	سیفٹی ڈے	یوم تحفظ/امن	Office	آفس	دفتر
Subject	سبجیکٹ	ماہرین مضمون	10 AM to 6		صبح ۱۰ بجے سے شام ۶ بجے
Specialists	سپیشلسٹس		PM		
Double Storey	ڈبل سٹوری	دو منزلہ	Airport	ایئر پورٹ	ہوائی اڈا
Certified	سرٹیفائیڈ	سند یافتہ	Signal Free	سگنل فری	بغیر اشارے کے/ار کے بغیر
Teachers	ٹیمپرز	اساتذہ	Drive	ڈرائیو	سڑک۔ سفر۔ مسافت
Professional	پروفیشنل	پیشہ ور۔ ماہر	Linear	لیئر	طویل۔ لمبا۔ سیدھا
Consultation	کنسلٹیشن	مشاورت۔ صلاح مشورہ	Main	مین	مرکزی۔ صدر
Lectures	لیکچرز	درس۔ اسباق۔ خطاب	Boulevard	بیلوارڈ	شاہراہ۔ خیابان
Ground	گراؤنڈ	میدان۔ زمین	Diplomatic	ڈپلومیٹک	سفارتی
Indoor	ان ڈور	اندرونی	Enclave	انکلیو	رہائشی علاقہ۔ احاطہ
Out Door	آؤٹ ڈور	بیرونی	Mega	میگا	بڑا۔ کثیر
Sports	سپورٹس	کھیل	Theme	تھیم	موضوعی۔ تفریحی
Concepts	کنسپٹس	تصورات	Holes	ہولز	سوراخ۔ گڑھے
Church	چرچ	گر جاگھر	Course	کورس	میدان
Release	ریلیز کرنا	پہلی بار دکھانا/نمائش کرنا	Central	سینٹرل	مرکزی
Week	ویک	ہفتہ	Business	بزنس	کاروباری
Ramp	ریمپ	چڑھائی۔ ڈھلان	District	ڈسٹرکٹ	علاقہ
Walk	واک	چلنا۔ ٹہلنا	Train	ٹرین	ریل گاڑی
Schedule	شیڈول	جدول۔ منصوبہ۔ تفصیل	Tyre	ٹائر	پہیہ
Producers	پروڈیوسرز	فلم ساز۔ پیش کار	Operation	آپریشن	کارروائی۔ عمل
Scripts	سکرپٹس	مسودے	Checking	چیکنگ	تلاشی۔ معائنہ۔ جائزہ
Breast Cancer	بریسٹ کینسر	چھاتی کا سرطان	Gate	گیٹ	دروازہ

Housing	ہاؤسنگ	رہائشی	Museum	میوزیم	عجائب گھر / [hy.]
General Public	جنرل پبلک	عام لوگ۔ عوام الناس	Business man	بزنس مین	کاروباری آدمی
Direct	ڈائریکٹ	براہ راست۔ بلا واسطہ	Comedian	کامیڈین	مزاحیہ فنکار
Allotment	الائمنٹ	نامزدگی۔ ملکیت	Search	سرچ	تلاش۔ کھوج
Commerical	کمرشل	تجارتی	Swimming	سوئمنگ	تیراکی۔ پیراکی
Sale purchase	سیل پر چیز	خرید و فروخت	Boat	بوٹ	کشتی
Consent	کوئینٹ	رضامندی۔ اجازت۔ منظوری	Rescuerer	ریسکیورز	نجات دہندہ
Letter	لیٹر	خط۔ چٹھی۔ مراسلہ	Emergency	ایمرجنسی	حادثات۔ ہنگامی حالات
Part Time	پارٹ ٹائم	جزوقتی	Model	ماڈل	مثال۔ نمونہ
Full Time	فل ٹائم	کل وقتی	Special Education	سپیشل ایجوکیشن	خصوصی تعلیم
Best	بیسٹ	بہترین	Center	سینٹر	مرکز
Evening shift	ایوننگ شفٹ	شام کے وقت	Rank	رینک	عہدہ
Male	میل	مرد۔ حضرات	Officers	آفیسرز	افسر۔ افسران
Fe-male	فی میل	خواتین۔ زنانہ	Challenge	چیلنج	اعتراض۔ لٹکار
Staff	سٹاف	عملہ	Wake-up call	ویک اپ کال	بیداری / اٹھانے کی پکار
Special	سپیشل	خصوصی	Life line	لائف لائن	زندگی کی لکیر / بچاؤ رسیہ
Discount	ڈسکاؤنٹ	رعایت۔ کمی	out	آؤٹ	باہر
Fresh	فریش	تازہ۔ نیا	shop	شاپ	دکان
Import	امپورٹ	درآمد	Floors	فلورز	منزلیں۔ منازل
Partnership	پارٹنرشپ	حصہ داری۔ شراکت	For sale	فار سیل	برائے فروخت
Building & Construction	بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن	عمارت اور تعمیر	House	ہاؤس	گھر۔ مکان

Business & Profession	برنس اینڈ پروفیشن	کاروبار اور پیشہ	For Rent	فاررینٹ	برائے کرایہ
Real Estate	ریئل اسٹیٹ	زمین کی ملکیت/ غیر منقولہ جائیداد	Residencial	ریزیڈنشل	رہائشی
Inflation	انفلیشن	افراط زر	Health & Fitness	ہیلتھ اینڈ فٹنس	صحت و تندرستی
Association of Builders & Developers	السیو ایسین آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز	عمارتی ٹھیکے داروں کی انجمن	Marriage Help	میرج ہیلپ	شادی میں مدد
Contractors	کنٹریکٹرز	ٹھیکے دار	Guarantee	گارنٹی	ضمانت
Publishers	پبلشرز	ناشرین	Dent	ڈنٹ	گڑھا نشان۔ خراش
Value	ویلیو	قیمت۔ قدر	Teachers	ٹیچرز	استاد۔ اساتذہ
Data	ڈیٹا	اعداد و شمار/ حقائق/ کوائف	Gurards	گارڈز	محافظ
Order	آرڈر	حکم۔ احکام	Cook	کک	باورچی۔ خانساماں
Fraud	فراڈ	دغا۔ دھوکا۔ فریب	Maid	میڈ	نوکرانی۔ ملازمہ
Tender	ٹینڈر	پیش کش	Loan	لون	ادھار۔ قرض
Notices	نوٹسز	تحریری اعلانات/ اطلاعات	offer	آفر	پیشکش
Hire	ہائر کرنا	کرائے پر لینا	New Office	نیو آفس	نیا دفتر
Supply	سپلائی	فراہمی۔ رسد	Urgent	ارجنٹ	فوری
Monitoring	مانیٹرنگ	نگرانی۔ چانچ	Ladies Tailors	لیڈیز ٹیلر	درزنیس/ خواتین درزی
Tracking	ٹریکنگ	کھوج۔ سراغ	Magic Power	میجک پاور	جادوئی طاقت
Rules	روز	اصول۔ قواعد و ضوابط	Pick & Drop	پک اینڈ ڈراپ	لیٹا اور چھوڑنا (سواری)



Rebate	ری بیٹ	کٹوتی	Deligation	ڈیلیگیشن	وہد
Flour Mills	فلور ملز	آٹا پینے کی چکیاں/ کارخانے	Competence	کمپنی ٹینسی	لیاقت/قابلیت
Issue	ایشو کرنا	جاری کرنا	Class I	کلاس I	درجہ اول
Share	شیر کرنا	شریک کرنا/حصہ دار بنانا	Certificate	سٹیٹفیکیشن	سند
Culture	کلچر	ثقافت، تمدن	Contract	کنٹریکٹ	معاہدہ
Social Media	سوشل میڈیا	سماجی/باہمی رابطہ کا ذریعہ	Regional	ریجنل	علاقائی
Rally	ریلی	اجتماع	Talent	ٹیلنٹ	جوہر قابل/صلاحیت
Agent	ایجنٹ	کارکن۔ کارندہ۔ گماشتہ	Hundred	ہنڈرڈ	سو
Shooting	شوٹنگ	قلم/نکس بندی	Percent	پرسنٹ	فی صد
Rescue	ریسکیو	مدد دینا۔ نجات دلانا	Case	کیس	مقدمہ
Marriage	میرج پیورو	شادی دفتر	Leader	لیڈر	رہنما۔ قائد
Bureau					
Head Quarter	ہیڈ کوارٹر	مرکزی دفتر	Forces	فورسز	افواج
Category	کیٹیگری	درجہ۔ زمرہ	Report	رپورٹ	حقائق کا بیان
Coaching	کوچنگ	تربیتی	Army	آرمی	بری فوج
Water Park	واٹر پارک	آبی تفریح گاہ	Staff	سٹاف	عملہ
Merit	میرٹ	لیاقت	Support	سپورٹ	معاون۔ مددگار
Headquarter	ہیڈ کوارٹر	مرکزی دفتر	Squard	سکواڈ	سورن (کرکٹ میں)
Category	کیٹیگری	درجہ۔ زمرہ	Senior	سینئر	جارج
Opener	اوپنر	آغاز/ابتدا کرنے والا	Court	کورٹ	میدان

اخبار میں درج انگریزی الفاظ کا صرفی سطح پر جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی الفاظ کے ساتھ ساتھ جمع بنانے کے انگریزی طریقے بھی اردو زبان میں آزادانہ استعمال کیے جا رہے ہیں جب کہ اردو زبان کا مزاج اس نوعیت کا ہے کہ اس میں دیگر

زبانوں کے جو الفاظ داخل ہوتے ہیں ان کی تدریس و تالیف کے تعین کے بعد ان کی جمع اردو قاعدے ہی سے بنائی جاتی ہے اور اس سلسلے میں کسی مشکل یا وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود انگریزی جمع کا استعمال توجہ طلب ہے۔ زیر مطالعہ اخبار سے ایسے کچھ الفاظ بطور مثال درج کیے جاتے ہیں:

گیمرز، رینجرز، ججز، ریزرز، سیونگنز، پلانرز، گینٹکسٹرز، سائن بورڈز، کالجز، سٹوڈنٹس، بوائز، نمبرز، پارکس، ایم پی ایز، ہاتھ رومز، واش پیسنز، ہاسپٹلو، ڈیلرز، پلاس، میچرز، پلیسٹرز، فیڈریشنز، سیکریٹریز، کوچرز، کورسز، ایمپائرز، رنز، سٹنگلز، فلورز، جزیٹرز، ہاؤسز، اپارٹمنٹس، بیڈ رومز، سرونٹ کوارٹرز، ہولز، کمپنیز، Subject Specialists، کلاسز، ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرز، Concepts، پروڈیوسرز، سکرپٹس، آفیسرز، ریسکیورز، فلیٹس، شاپس، سروسز، لیڈیز، ڈرائیورز، سیکورٹی گارڈز، پبلشرز، انجینئرز، سپروائزرز، آپریٹرز، مینیکرز، سکولز، ٹینڈرز، مینوفیکچرز، سپلائرز، سوئیچرز، سیٹلرز، رولز، ملز، ڈویلپرز، بلڈرز، بروکرز، نوٹسز، کنسلٹنٹس، پبلیٹ فارمز، سائٹس۔

مذکورہ بالا انگریزی الفاظ کی جمع کے لیے اردو جمع کے طریقے سے بھی مکمل مفہوم ادا ہو جاتا ہے جیسے ڈاکٹرز نے..... (ڈاکٹروں نے...)۔ پلاس کی خرید و فروخت (پلاٹوں کی...)۔ جمع کے ساتھ ساتھ انگریزی افعال کو اردو مصادر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے جسے پرفارمنس چیک کرنا/ اپلائی کرنا/ ایڈجسٹ کرنا/ ریلز ہونا وغیرہ۔ نیز انگریزی مرکبات و فقرات کا استعمال غور طلب ہے: ہاؤس فار سیل/ ۵ ریزرز کا اکاؤمی پیک/ ان ڈورا اور آؤٹ ڈور سپورٹس/ سیل و پریچرز۔ اس صورت حال کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب انگریزی الفاظ کو نستعلیق کے بجائے رومن رسم الخط میں لکھا جا رہا ہے۔ جیسے MCQ's, Apply, Kamal - Life Zaroori, Subject Specialists, 5.0 Bands میں Ielts, 10 AM to 6 PM, Concepts۔ SMS کریں۔ Hai لکھ کر SMS کریں۔ Conceptual، 5.0 Bands میں Ielts، 10 AM to 6 PM، Concepts۔ وغیرہ وغیرہ۔ زیر نظر مقالے میں انگریزی کے ان الفاظ کو موضوع نہیں بنایا گیا جو اردو میں ذخیل الفاظ کا درجہ پا چکے ہیں۔ یہاں فقط مستعار الفاظ پر تحقیق کی گئی ہے۔ اگر دوسروں کی راہ نمائی کے لیے اردو اخبارات اپنی تحریر میں انگریزی الفاظ کے استعمال پر نظر ثانی کر لیں تو اس سے اردو کی وسعت، تجربات اور پاکستانی اردو میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوگا۔ ورنہ ہم آہستہ آہستہ اپنی اردو سے دور ہوتے جائیں گے۔

حواشی:

۱ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ”تدریس اردو“، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، طبع دوم، ۱۹۹۸ء، ص ۳۔

۲ ڈاکٹر ابوالیث صدیقی، ”ادب ولسانیات“، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، ۱۹۷۰ء، ص ۲۔

۳ روزنامہ ”ایکسپریس“، اسلام آباد، اتوار، ۲۳ اپریل ۲۰۱۷ء، ص ۱۔

۴ ایضاً، ص ۲۰۲، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹۔

۵ ایضاً، ص ۱۔

۶	ایضاً، ص ۲۔	سلسلہ
۷	ایضاً، ص ۳۔	غفاظ
۸	ایضاً، ص ۴۔	
۹	ایضاً، ص ۶۔	
۱۰	ایضاً، ص ۷۔	دمنڑ
۱۱	ایضاً، ص ۸۔	س
۱۲	ایضاً، ص ۹۔	مرز
۱۳	ایضاً، ص ۱۰۔	لرز
۱۴	ایضاً، ص ۱۱۔	
۱۵	ایضاً، ص ۱۲۔	
۱۶	ایضاً، ص ۱۳۔	ول
۱۷	ایضاً، ص ۱۴۔	سے
۱۸	ایضاً، ص ۱۵۔	فار
۱۹	ایضاً، ص ۱۶۔	ب
۲۰	ایضاً، ص ۱۸۔	Ke
۲۱	ایضاً، ص ۱۹۔	Su
۲۲	ایضاً، ص ۲۰۔	فقط
۲۳	ڈاکٹر جمیل جالبی، ”قومی انگریزی اردو لغت“، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، اسلام آباد، طبع چہارم، ۱۹۹۹ء۔	اگر

Bashir A. Qureshi "Kitabistan's Composite Dictionary" Kitabistan Publishing Co. lahore, 1994

فہرست اسناد و محمولہ:

- ۱۔ جالبی، جمیل، ڈاکٹر، ۱۹۹۹ء، ”قومی انگریزی اردو لغت“، طبع چہارم، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، اسلام آباد۔
- ۲۔ روزنامہ ”ایکسپریس“، اتوار، ۲۳ اپریل ۲۰۱۷ء، اسلام آباد۔
- ۳۔ صدیقی، ابواللیث، ڈاکٹر، ۱۹۷۰ء، ”ادب ولسانیت“، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی۔
- ۴۔ فتح پوری، فرمان، ڈاکٹر، ۱۹۹۸ء، ”تدریس اردو“، طبع دوم، مقتدرہ قومی زبان پاکستان۔ اسلام آباد۔

Bashir A. Qureshi "Kitabistan's Composite Dictionary" Kitabistan Publishing Co. lahore, 1994